

نقشہ سحر و افطار (راولپنڈی و اسلام آباد شہر)

رمضان المبارک 1439ھ، مئی/جون 2018ء

نام دن	تاریخ عیسوی	تاریخ قمری	وقت طلوع فجر	وقت غروب آفتاب
جمعرات	17	01	3:29	7:03
جمعہ	18	02	3:28	7:04
ہفتہ	19	03	3:27	7:04
اتوار	20	04	3:26	7:05
پیر	21	05	3:25	7:06
منگل	22	06	3:24	7:07
بدھ	23	07	3:23	7:07
جمعرات	24	08	3:22	7:08
جمعہ	25	09	3:22	7:08
ہفتہ	26	10	3:21	7:09
اتوار	27	11	3:20	7:10
پیر	28	12	3:19	7:11
منگل	29	13	3:19	7:11
بدھ	30	14	3:18	7:12
جمعرات	31	15	3:17	7:12
جمعہ	یکم جون	16	3:17	7:13
ہفتہ	02	17	3:16	7:14
اتوار	03	18	3:16	7:14
پیر	04	19	3:15	7:15
منگل	05	20	3:15	7:15
بدھ	06	21	3:14	7:16
جمعرات	07	22	3:14	7:16
جمعہ	08	23	3:14	7:17
ہفتہ	09	24	3:14	7:17
اتوار	10	25	3:13	7:18
پیر	11	26	3:13	7:18
منگل	12	27	3:13	7:19
بدھ	13	28	3:13	7:19
جمعرات	14	29	3:13	7:19
جمعہ	15	30	3:13	7:19

باسمہ تعالیٰ

نقشہ اور روزہ سے متعلق چند اہم باتیں

اس نقشہ میں دیئے گئے سحر و افطار کے اوقات میں احتیاط شامل نہیں ہے، اس لئے احتیاط یہ ہے کہ معیاری وقت کے مطابق سحری چند منٹ پہلے بند کر دی جائے، اور افطار میں چند منٹ بعد کی احتیاط شامل کی جائے۔
مسئلہ:..... سحری کا وقت طلوع فجر یا صبح صادق پر ختم ہو جاتا ہے، اور روزہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مذکورہ نقشہ میں جو انتہائے سحر کا وقت دیا گیا ہے، وہ ٹھیک طلوع فجر یا صبح صادق کا وقت ہے، اس کے بعد سحری کے عنوان سے کچھ کھانا پینا درست نہیں، خواہ کسی جگہ فجر کی اذان بھی نہ ہوئی ہو، اور بعض لوگوں کا طلوع فجر کے اصل وقت کو نظر انداز کر کے بلکہ طلوع فجر ہونے کے بعد بھی فجر کی اذان شروع ہونے یا ختم ہونے تک سحری کے عنوان سے کھاتے پیتے رہنا درست نہیں، اس سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔

مسئلہ:..... روزہ کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو کر سورج غروب ہونے تک جاری رہتا ہے، اس پورے وقت میں عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رُکے رہنے کا نام روزہ ہے۔

مسئلہ:..... روزہ کی نیت دل سے کرنا ضروری اور کافی ہے، زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، اور اسی طرح افطار کے وقت زبان سے مخصوص الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ بعض دعائیں مسنون ہیں۔

مسئلہ:..... بھول کر کھانے پینے یا خود بخود قے ہو جانے، یا آنکھ میں دوا ڈالنے یا جسم سے خون نکلوانے یا چڑھوانے یا جسم کے کسی حصہ سے خون نکلنے یا ٹیکہ اور ڈرپ لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ روزہ کی حالت میں بلا عذر رطقت کا ٹیکہ یا ڈرپ لگوانا مکروہ عمل ہے۔

مسئلہ:..... روزہ کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، بدنظری اور اس قسم کے دوسرے گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ روزہ کی نورا نیت اور قبولیت ضائع ہو جاتی ہے، اگرچہ روزہ کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔

مسئلہ:..... سحری اور افطاری میں بطور خاص رزقِ حلال کا اہتمام اور رمضان کے بابرکت مہینہ میں حرام خوری سے اجتناب کرنا چاہیے۔
تفصیل کے لئے ہماری کتاب ”ماہ رمضان کے فضائل و احکام“ ملاحظہ فرمائیں۔

جاری کردہ: ادارہ غفران، راولپنڈی

فون: 051-5507530